



فاصلہ برقرار رکھیں

دو میٹر کا فاصلہ رکھیں یا سکرین
کے ساتھ ایک میٹر کا۔

ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے یا
کھڑے ہونے سے گریز کریں۔